

JUZ XXII

31. Ngen barang api diantara udi kete (perepuan-perepun nebe'i) tetep taat ngen Allah Rasul ne ngen mengerjakan amal gi soleha niscaya keme melie ngen si pahalo duei kilei lt ngen keme semdio utuk ne reskey di mulia.
32. Hei perpuan-perepuan nebe'i udi kete coa ba awie selewiegi leyen, amen udi bertaqwa maka jibeakba udi tunduk lem berbicara sing'go berkeinginanlah tun di ade penyakiet lem atie ne ngen ngucep ba baso I dek.
33. Di padek n udi nak ume'ak nug ami ba udi behias ngen bertike'ak lakeu awie tun tun jahiliyah gi belo'o ngen direyba semyang, tuneiba zakat ngen ba mege'a Allah ngen rasul ne. Sunggeu Allah ade maksud lak melaput duso kuney udi. Hoi ahlul bait ngen m'bersi udi sebersi-bersine.
34. Ngen inget ba jano di mbaca nak umea nu kunai ayat-ayat Allah ngen hikmah (sunnah nabe'I nu). Sungge'u ne Allah adeba Maha lembu'et ngen maha namen
35. Sungge'u ne semanie ngen selawie gi muslim, simanie ngen selawie gi mu'min. semanie ngen selawie gi tetep lem ta'at ne, semanie naen selawie gi bene'a, semanie ngen selawie gi sabar, semanie ngen selawie gi khusyu', semanie ngen selawie di bersedekah, simanie ngen selawie di puaso, semanie ngen selawie gi meliaro kehormatan ne, semanie gi de'u sembut (gen) Allah. Allah udo semdio utuk udi ampunan ngen pahalo gile'i.

﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ اَلنَّبِيَّ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۗ اِنَّ اَتَّقِيْنَ فَلَآ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۱﴾

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓءِ ۗ وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاَتَيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اَللَّهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اَللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۲﴾

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰٓى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ ءَايٰتِ اَللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ اِنَّ اَللَّهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿۳۳﴾

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَّصِدِقِيْنَ وَالْمُتَّصِدِقٰتِ وَالصّٰبِتِيْنَ وَالصّٰبِتٰتِ وَالْحٰنِفِطِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذَّاكِرِيْنَ ۗ اَللَّهُ كَثِيْرًا

وَالَّذِي كَرِهْتَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا



36. Dan coa ba patut utuk semanie gi mukmin ngen coa (kulo) utuk selawie mukmin. Amen Allah ngen Rasul ne udo temtep suatu ketetapan bi ade bage'I udi pilihan (gi leyen) tentang urusan udi. Ngen barang api durhako mage'a Allah ngen rasul ne maka sungge'u ne si bi sesat gi nyato.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا



37. Ngen (inget ba) wakteu udi made'ak ngen tun gi Allah udo meliae nikmat ngen si ngen udi (kulo) udo melie mikmat ngen si: "Tahenba terus perpuan nu ngen taqwa ba mage'a Allah." Bi udi nunyin nak lem atie nu jano Allah lak made;ak ne, ngen udi saben ngen manusio, sedang Allah ba gi lebe'ak berhak utuk udi lak saben, mako amen zaid udo mengakhiri kelak ne mage'a perepuan ne (mence'iene) keme mike'ak udi magea' si supayocoa ade ge keberatan bagei tun mukmin utuk (mike'ak) perepuan-perepuan, anak-anak aket udi, amen anak-anak aket do sudoh semlesie kelak kunai perepuan ne, ngen adeba kelak Allah pastei terjijei.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ

38. Coa ade sauté keberatan kunai nebe'I tentang jano udo temtep Allah bagei ne (Allah udo temtep gi awie o') sebagai sunnah ne mage'a nebe'i-nebe'I bi udo trjijei belo'o ngen adeba temtep Allah o' sauté gi pastei belakeu.

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۗ

39. (Do'a ba) tun-tun gi semapie risalah-risalah Allah, udi saben mage'asi ngen udi coa meraso saben mage'a dikup tun (pun) seleyen mage'a Allah. Ngen bi cukup ba Allah di mene'a perhitungan.

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۗ

40. Muhammad o' debat-debat iso si bapak kunai dikup semanie nak nataro nu. Si ade ba Rasulullah ngen penutup nebe'i-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ

nebe'I ngen adeba Allah Mahan amen jano bae.

اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَّ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

٤١

41. Hoi tun-tun berimen, dzikir ba (ngen senbut gen) Allah, zikir, bid'u-de'u ne.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

42. Ngen bertasbihlah mage'a ne waktau puweng ngen keimen.

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَّاَصِيلاً

43. Sib a milie rahmat mege'a udi ngen malaikat ne (minai apun utuk udi), supayo si kemlu'a udi kunai gelep mage'a cahaya (gite'ang) adeba si maha penyang tun-tun beriman.

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

٤٢

44. Salam hormat mage'a udi (tun-tun mu'min o') waktau bilei udi teme'u ngen ne adeba."salam: ngen si semdio phalo gi mulio utuk udi.

حَيَّتَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَّأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

٤٣

45. Hoi Nabi, sungge'u ne keme mutus nu utuk jiji saksei, ngen tun ngen'in kabar baik ngen melie peringatan.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

٤٤

46. Ngen udi jiji penyeru mage'a Agama Allah ngen izin utuk jiji cahayo di te'ang.

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ۖ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

47. Ngen sapie ba berita baik mage'a tun-tun mu'min. sunggeu ne utuk udi karunia gele'I kunai Allah.

وَنَبِّئِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

48. Ngen damina udi temurut tun-tun di kafir ngen tun-tun munafik o'. dami ba udi kemirau ganggeu an si ngen tawakkal ba nage'a Allah, ngen cukup ba Allah jiji pelindung.

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ وَدَعِ اذْهَبَهُمْ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

49. Hai tun-tun di berimen, amen udi nike'ak ngen selawie-selawie di berimen, udo o'udi ce'ie ne waktau udi atu campo'a ngen si, mako debat kilei coa wajib das si iddah bage'I nu, di udi lak semperno ne, mako melie ba si mut'ah

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِّن قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِّنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ

ngeri ken pes basi o'ngen caro gi padek-
padek ne.

سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٥٠﴾

50. “Wei nbei! Sebenea ne keme ne menghalalke untuk nu ngenyan-ngenyan nu dek be ko nageak maskawinne ngen hamba sahaya dek ko tuan ne, magea jane dek ko dapet nak lem peperangan dek ne karunia kunei Tuhan untuk nu, ngen (dek cek o ba pulu) anak-anak slawei jak kenei sanak smanei bapak nu, anak slawei jak kenei snak slawei bapaknu, anak-anak slawei jak kenai sanak smanei inoknu ngen anak-anak slawei jak kenai sanak slawei inok nu dek mileu hijrah bersamo nu, ngen slawei mukmin dek mageak ke direine nagea Nbei kalau Nbei lak menikeane, sebagai kekhususan untuk nu, coa untuk ketene tun mukmin. Keme be teu jane dek keme newwajibke untuk tobo o tentang ngennyng-ngennyng to bo o ngen hamba sahaya dek to bo o tuan mako coa menjijei kesempatan untuk nu, dan tuhan Maha pengampun, maha penyayang”.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ
خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ
النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

51. “Ko buleak menanggungkan (menggauli) api dek ko lak nak antaro to bo o (ngenyng-ngenyng nu) ngen (buleak pulo) menggauli api (nak antaro tobo o) dek ko lak ngen api dek ko lak untuk mengguline igei nak antaro ngenyng-ngenyng nu dek be ko sisihke, mako coa ade doso untuknu. Dek cek o le beak paak untuk ketenangan atei tobo o, ngen tobo o cao meraso ibo. Dan to to rela magea jane dek be ko nageak magea to bo o ketene. Dan Tuhan namen jane dek (nunyng) nak lem ateinu. Dan Tuhan Mahan amen, maha penyantun”.

﴿٥٢﴾ تَرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُتَوَىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَمَنْ أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ آعْيُنُهُنَّ وَلَا تَحْزَنَ
وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا
فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥٣﴾

52. Coa halal untuk nu (Muhammad) menikeak ke slawei-slawei (luyen) udem o, ngen coa buleak (pulo) menggitei to bo o magea ngeyan-ngenyng (dek leyng),

لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ
مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

meskipun kecantikanne menarik atei nu kecuali slawei-slawei (hamba sahaya) dek ko tuan ne dan Tuhan Maha mengawasi ketene o”.

53. “Wei tun-tun dek berimen! Ami ban u masuk mai umeak-umeak Nbei kecuali men nu neizin ke untuk emuk coa mot wakteu masak (kemukne) tapi men nu ennok mako masuk ba ngen amen nu udem ngemuk, kaleu ban u ami memperpanyang miling. Sebeneane dek ce o adalah menggageu nbei mako si (nbei) selek magea nu (untuk meloaknu keluwea). Dan Tuhan coa selek (meneangke) dek benea. Amen nu be kinai sesuateu (keperluan) magea to bo o (ngenyang-ngenyang Nbei) mako kinaiba jak kenei belakang tabir (caro) dek cek o ba lebeak suci untuk atei nu ngen atei to bo o, ngen coa buleak nu mgis (atei) rasu;ullah ngen cao buleak (pulo) menikeak ke ngenyan-ngenyang ne sean an ne udem (Nbei meninga), nien. Dek cek o ba sangat lei (dos one) nak sisi Tuhan”.

54. Men nu menyateke sesuatu men coa o memunyunke, mako sebeneane Allah maha teu kete ne o.

55. Coa dek duso untuk ngenyan-ngenyang Nbei (untuk bet meu coa be tabir) magea bapak-bapak to bo o, anak semanei-semanei to bo o, sanak smanei-smanei to bo o, anak smanei-smanei jak kenei sanak slawei to bo o, slawei-slawei to bo o (dek berimen) ngen hamba-hamba dek to bo o tuanne, ngen bertaqwa ban nu (ngenyang-ngenyang Nbei) magea Tuhan, nien, Tuhan Maha menyaksikan kete ne o.

56. Sebeneane Tuhan ngen Malaikat-malaikat ne berslawat untuk Nbei, wei tun-tun dek berimen! Berslawat ba udi untuk

يَمِينِكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٣﴾

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِفِينَ لِحَدِيثٍ ؕ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنِ الْحَقِّ ۖ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ

كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

إِن تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خُفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٥﴾

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٦﴾

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا

Nbei ngen nadeak ke ba salam secaro penoak kehormatan magei ne.

الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

57. Senebenea ne (magea) tun-tun mgis Tuhan ngen Rasul-Ne, Tuhan pasti melaknatne nak dunio ngen nak akherat magea senedione azab dek menghina ke untuk to bo o.

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

58. Ngen tun-tun dek mgis tun-tun mukmin smanei ngen kaleu coa dek saleak dek to bo o mnea nien to bo o be emin kebohongan ngen doso dek nyato.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

59. Wei Nbei nadeak ba magea ngenyan-ngenyan nu, anak-anak slawei nu, ngen ngenyan-ngenyan tun mukmin, “Dek baik ne to bo o menutup ke jelbab ne mai kete awak ne, dek cek o bat obo o lebeak mudeak untuk mengenal ke udem o to bo cao nggangeu dan Tuhan maha Pengampun Maha Penyayang.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

60. Nain, men tun-tun munafik, tun-tun dek bepenyakit nak lem atei ne ngen tun-tun dek nadeak kabar ngike nak mdineak coa bedan (jak kenai mgis). Niscayo keme melaok ke ko (untuk memerangi to bo o, udem ne to bo o cao igei jije tetanggo nu (nak mdineak) amen coa jeang.

۞ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

61. Nak lem keadaan terlaknat. Nak ipe bae to bo o ne jumpai, to bo o pasti tenakep ngen nonoak coa pakei apun.

مَلْعُونِينَ ۗ أَيُّنَمَا تُفُفُوا أَخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

62. Sebagai sunneak rasul Tuhan dek (belakeu kenai) untuk tun-tun dek be belo o ati terjije (kerno ko) ngen ko coa temmeu ubeak nak sunnek Tuhan.

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

63. Manusio betanye magea nu (Muhammad) tentang bilei kiamat. Nadeak ba, “ilmeu tentang bilei kiamat dek o cumin nak sisi Tuhan.” Ngen teu ko coa, buleak jije

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

bilai kiamat dek o be pa ak wakteu ne.

64. Sebeneane, Tuhan melaknat tun-tun kafir ngen menyedioke untuk to bo o opoi menyalei-nyalei (nerako).

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿١٤﴾

65. To bo o kekal nak lem ne selamolamone; to bo coa gen dapet pelinung ngen penulung.

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يَخْرُجُوْنَ وَّلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿١٥﴾

66. Sewakteu bilei wakteu tebe'o bolak-balik lem nrako, tebe'o madeak:"alangne kebaik kaleu keme turut ngen Allah udem oh turut (kenai) pula ngen rasul".

يَوْمَ تَقْلَبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا

اٰطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ﴿١٦﴾

67. Udem o tebe'o madeak:"Oi Tuhan keme sebeneane keme udem menurut pemimpin-pemimpin gen pengloipengloi keme, udem o tebe'o menyesatkan keme kunei dalen (dek benea).

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اٰطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرٰآءَنَا فَاَصْلٰوْنَا

السَّبِيْلًا ﴿١٧﴾

68. Oi Tuhan keme, nileiba ngen tebe'o sikso duei kilei lipet den knutuk ba tebe'o ngen supeak dek lei.

رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعٰذَابِ وَالْعَنِيْمَ لَعْنَا

كَبِيْرًا ﴿١٨﴾

69. Woi tun-tun dek berimen, dangba nu mjiije awei tun-tun dek mgis Musa; mako Allah mbersine kunei tnodoak dek udi madeak. Gen adalah si suang dek mdapet kedudukan terhormat nak paak Allah.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ ءَاذَوْا مُوسٰٓى

فَبَرّٰهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿١٩﴾

70. Woi tun-tun dek berimen, bertaqwa ngen Allah nadeak be kecek dek benar.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

﴿٢٠﴾

71. Niscaya Allah mubeak untukmu amal-amalan nu gen mengampun untukmu doso-sodonu. Gen barang api mnurut Allah gen rasul ne, mako sebeneasebeneane si udem mdapet menang dek lei.

يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ

يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٢١﴾

72. Sebenea-benea keme udem mengungkap pesen ngen lenget, bumei, gen tebo-tebo, mako ketene calak untuk memikil pesan o gen udi temos akan negisne, gen

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمٰنَةَ عَلٰى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَالْجِبَالِ فَاَبِيْنَ اَنْ تَحْمِلَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا

dipikullah pesen o oleh manusia.
Sebeneane manusio o paling zalim gen
paling bodong.

73. Mako Allah mengazab tun-tun munafik
sbong-sbong gen bei-bei gent un-tun
musrikin sbong-sbong gen bei-bei; gen
mako Allah mnrimo tobat tun-tun
mu'min sbong-sbong gen bei-bei. Gen
Allah maha mengampuni igei maha
mnyayang.

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٣﴾

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ

وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

